

سویابین کھانے کا حکم

مجیب: مولانا محمد علی عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: WAT-2583

تاریخ اجراء: 10 رمضان المبارک 1445ھ / 21 مارچ 2024ء

دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

سوال

کھانے میں سویابین کھانا کیسا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

سویابین، پھلی دار پودے کی ایک قسم ہے، جس کی باقاعدہ کاشت ہوتی ہے، اس کے پودے کی پھلی میں قابل استعمال دانے ہوتے ہیں، جنہیں سویابین کہا جاتا ہے، یہ دانے بطور سبزی استعمال کئے جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان سے تیل بھی نکالا جاتا ہے۔

شرعی حکم: سویابین کھانا، جائز ہے، کیونکہ نباتات یعنی زمین سے اُگنے والے پودوں، پھلوں اور جڑی بوٹیوں کے حوالے سے شرعی اصول یہ ہے کہ اگر وہ نقصان نہ پہنچاتی ہوں اور نشہ آور نہ ہوں تو وہ حلال ہیں۔ اور سویابین نہ تو ضرر رساں ہے اور نہ ہی نشہ دیتی ہے، لہذا دیگر حلال سبزیوں کی طرح یہ بھی حلال ہے۔

مختلف نباتات و ثمرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ﴿فَاَخْرَجْنَا بِهٖۤ اَزْوَاجًا مِّنۡ نَّبَاتٍ شَتۡیٰ (۵۴)﴾
کُلُوْا وَاِزْعَمُوْا اَنْعَامَكُمۡ ﴿۵۴﴾ ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ (پارہ 16، سورۃ طہ، آیت 54، 53)

تمام نباتات حلال و مباح ہیں، جبکہ ضرر یا نشہ نہ دیں، علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ ”متن“ نامی ایک بوٹی کے بارے میں کلام کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”(الاصول الاباحۃ والتوقف) المختار الاول عند الجمهور من الحنفیۃ والشافعیۃ۔۔ (فیہم منہ حکم النبات۔۔) وهو الاباحۃ علی المختار والتوقف وفیہ اشارۃ الی عدم تسلیم اسکارہ وفتیرہ واضرارہ“ ترجمہ: ”اشیاء میں اصل اباحت ہے یا توقف؟“ حنفیہ اور شافعیہ میں سے جمہور علماء کا مختار مذہب یہ ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔۔ ”پس اس قاعدے سے متن نامی بوٹی کا حکم بھی

سمجھا جاسکتا ہے“ اور وہ مختار مذہب کے مطابق اس کا مباح ہونا ہے یا پھر (غیر مختار قول کے مطابق) توقف ہے اور اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر اُس بوٹی کا نشہ آور ہونا یا ضرر رساں ہونا تسلیم نہ کیا جائے، تب یہ حکم ہے (ورنہ اگر نشہ آور ہو یا ضرر رساں ہو، تو اُسے کھانا، جائز نہیں ہوگا)۔ (ردالمحتار علی الدر المختار، ج 6، ص 460، دارالفکر، بیروت)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ



دارالافتاء
DARUL IFTA AHLESUNNAT

Darul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)



www.daruliftaahlesunnat.net



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



feedback@daruliftaahlesunnat.net